

# Jos

## Chapter 14

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וְאֵלֶּה	אֲשֶׁר-	נָחֳלוֹ	בְּנֵי-	יִשְׂרָאֵל	בְּאֶרֶץ	כְּנָעַן	אֲשֶׁר	נָחֳלוֹ	אוֹתָם
	اور-یہ	جو	میراث-میں-پایا	بنی	اسرائیل-نے	سرزمین-میں	کنعان	جو	میراث-دیا	انہیں
	<a href="#">H0428</a>		<a href="#">H5157</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0776</a>			<a href="#">H5157</a>	<a href="#">H0853</a>
	אֶלְעָזָר	הַכֹּהֵן	וַיהוֹשֻׁעַ	בֶּן-	זֵנוּן	וְרָאשֵׁי	אֲבוֹת	הַמִּטּוֹת	לְבִנָּי	יִשְׂרָאֵל:
	الیعزر-نے	کابن	اور-یشوع-نے	بیٹے	نون-کے	اور-سرداروں-نے	بایدادا-کے	قبیلوں-کے	بنی	اسرائیل-کے
	<a href="#">H0499</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H3091</a>		<a href="#">H5126</a>		<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H4294</a>		<a href="#">H3478</a>

قبیلوں اور نون بن یشوع امام، عزرا الی لئے کے اس گئی۔ مل زمین میں کنعان ملک یعنی میں مغرب کے یردن دریائے کو قبیلوں نو ساڑھے باقی کے اسرائیل نے سربراہوں کے گھرانوں آبائی کے

2	בְּדוֹרָה	נַחֲלָתָם	כְּאִשֶׁר	צִוָּה	יְהוָה	בְּיַד-	מֹשֶׁה	לְתַשְׁעַת	הַמִּטּוֹת	וַחֲצִי
	قرعہ-سے	میراث-ان-کی	جیسے	حکم-دیا-تھا	یہوواہ-نے	باتھ-سے	موسیٰ-کے	نو	قبیلوں-کو	اور-آدھے
	<a href="#">H1486</a>	<a href="#">H5159</a>		<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H8672</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H2677</a>

הַמִּטּוֹת:

قبیلے-کو

[H4294](#)

تھا۔ دیا حکم کو موسیٰ نے رب طرح جس ہوا ہی ویسا یوں جائے۔ مل علاقہ سا کون کون کو قبیلے ہر کہ کیا مقرر کر ڈال قرعہ

3	כִּי-	נָתַן	מֹשֶׁה	נַחֲלָת	שְׁנֵי	הַמִּטּוֹת	וַחֲצִי	הַמִּטּוֹת	מֵעֵפֶר	וְלָלוּיִם
	کیونکہ	دیا-تھا	موسیٰ-نے	میراث	دو	قبیلوں	اور-آدھے	قبیلے-کو	پار	اور-لاویوں-کو
		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H2677</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H5676</a>	<a href="#">H3881</a>
	לֹא-	נָתַן	נַחֲלָה	בְּתוֹכָם:						
	نہیں	دیا	میراث	ان-کے-درمیان						
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H8432</a>						

میں وجود افرائیم اور منسی قبیلے دو کے اولاد کی یوسف کیونکہ تھا، چکا دے میں مشرق کے یردن دریائے زمین موروثی کی ان کو قبیلوں اڑھائی موسیٰ لئے کے ریوڑوں اور شہر لئے کے رہائش صرف انہیں بلکہ دی نہ زمین کو لاویوں نے اسرائیلیوں ملی۔ نہ زمین درمیان کے ان کو لاویوں لیکن تھے۔ آئے دیں۔ چراگاہیں

4	כִּי-	הָיוּ	בְּנֵי-	יוֹסֵף	שְׁנֵי	מִטּוֹת	וּמִנְשֵׁה	וְאֶפְרַיִם	וְלֹא-	נָתַן	חֶלֶק	לְלוּיִם
	کیونکہ	تھے	بنی	یوسف	دو	قبیلے	منسی	اور-افرائیم	اور-نہیں	دیا	حصہ	لاویوں-کو
		<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3130</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H3881</a>

وְלֹקְמָנָשׁ:	כִּי	אֵם-	עָרִים	לְשִׁבָּת	וּמִנְשֵׁה	וְאֶפְרַיִם	לְמִקְדָּיִם	וְלֹקְמָנָשׁ:
اور-مال-ان-کے-کے-لیے	مگر	سوائے	شہروں-کے	رہنے-کو	اور-چراگاہوں-ان-کے	اور-افرائیم	مویشیوں-ان-کے-کے-لیے	اور-مال-ان-کے-کے-لیے
<a href="#">H7075</a>				<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H4054</a>		<a href="#">H4735</a>	<a href="#">H7075</a>

میں وجود افرائیم اور منسی قبیلے دو کے اولاد کی یوسف کیونکہ تھا، چکا دے میں مشرق کے یردن دریائے زمین موروثی کی ان کو قبیلوں اڑھائی موسیٰ لئے کے ریوڑوں اور شہر لئے کے رہائش صرف انہیں بلکہ دی نہ زمین کو لاویوں نے اسرائیلیوں ملی۔ نہ زمین درمیان کے ان کو لاویوں لیکن تھے۔ آئے دیں۔ چراگاہیں

5	כַּאֲשֶׁר	צָוָה	יְהוָה	אֶת־	מֹשֶׁה	כִּן	עָשׂוּ	בְנֵי	יִשְׂרָאֵל	וַיַּחְלְקוּ	אֶת־
	جیسے	حکم-دیا-تھا	یہوواہ-نے	کو	موسیٰ	ویسے	کیا	بنی	اسرائیل-نے	اور-تقسیم-کیا	کو
		<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4872</a>				<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0853</a>	

הָאָרֶץ: **פ**  
—  
زمین  
[H0776](#)

تھیں۔ دی کو موسیٰ نے رب جو کیا تقسیم مطابق کے ہدایات ہی اُن کو زمین نے اُنہوں یوں

6	וַיִּנְשְׂוּ	בְנֵי־	יְהוּדָה	אֶל־	יְהוֹשֻׁעַ	בְּجִלְגָל	וַיִּזְאָמְרוּ	אֵלָיו	כָּל־	בְּנֵי	יִפְנֶה
	اور-آئے	بنی	یہوداہ	پاس	یشوع-کے	جلجال-میں	اور-کہا	اُس-سے	کالیب-نے	بیٹے	یفتہ-کے
	<a href="#">H5066</a>		<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3091</a>	<a href="#">H1537</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3612</a>	<a href="#">H3312</a>	

הַקְּנִי	אֶתְהָ	יָלַעַתָּ	אֶת־	הַדְּבָר־	אֲשֶׁר־	הַדְּבָר	יְהוָה	אֶל־	מֹשֶׁה	אִישׁ־	הָאֱלֹהִים
قنزی	تُو	جانتا-ہے	کو	جو	کہی	کہی	یہوواہ-نے	سے	موسیٰ	آدمی	خدا-کے
<a href="#">H7074</a>		<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0430</a>

עַל־  
بارے-میں  
אֲדוֹתַי  
میرے  
וְעַל־  
اور-بارے-میں  
אֲדוֹתֶיךָ  
تیرے  
בְּרִנֵּעַ: בְּקָדֶשׁ  
قادس-برنیع-میں  
[H6947](#)

مرد نے رب کہ بے یاد کو آپ کہا، سے يشوع نے اُس تھا۔ ساتھ کے اُن بھی کالب بیٹا کا قنزی یفتہ آئے۔ پاس کے يشوع مرد کے قبیلے کے یہوداہ میں جلجال تھے۔ میں برنیع قادس ہم جب کہا کچھ کیا میں بارے میرے اور کے آپ سے موسیٰ خدا

7	בְּנֵי	אֲרָבַעִים	שָׁנָה	אֲנָכִי	בְּשַׁלַּח	מֹשֶׁה	עֲבָד־	יְהוָה	אֶתִי	בְּרִנֵּעַ	מִקָּדֶשׁ
	بیٹا	چالیس	سال-کا	میں-تھا	جب-بھیجا	موسیٰ-نے	بندے	یہوواہ-کے	مجھے	قادس-برنیع-سے	
		<a href="#">H0705</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6947</a>	

לְרַגְלִי  
جاسوسی-کرنے  
אֶת־  
کو  
הָאָרֶץ  
زمین  
וְאָשָׁב  
اور-لوٹایا-میں-نے  
אֲתוֹ  
اُسے  
דְּבָר־  
خبر  
כַּאֲשֶׁר  
جیسے  
עִם־  
ساتھ  
לְבָבִי:  
دل-میرے  
[H3824](#)

کو موسیٰ نے میں تو آیا واپس جب دیا۔ بھیج سے برنیع قادس لئے کے لینے جائزہ کا کنعان ملک مجھے نے موسیٰ خادم کے رب جب تھا کا سال 40میں تھا۔ دیکھا جو بتایا کچھ سب سے داری دیانت

8	וְאֶחָיו	אֲשֶׁר	עָלוּ	עִמָּי	הַמְּסִי	אֶת־	לֵב	הָעַם	וְאֲנָכִי
	اور-بھائیوں-میرے	جو	گئے	میرے-ساتھ	پگھلا-دیا	کو	دل	لوگوں-کا	اور-میں-نے
	<a href="#">H0251</a>		<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H4529</a>	<a href="#">H0853</a>				<a href="#">H0595</a>

מְלֵאֲתֵי  
پوری-طرح-پیروی-کی  
אֶחָיו  
پیچھے  
יְהוָה  
یہوواہ  
אֶלָּהִי:  
خدا-میرے-کے  
[H0430](#)

رہا۔ وفادار کا خدا اپنے رب میں لیکن ڈرایا۔ کو لوگوں نے اُنہوں تھے گئے ساتھ میرے بھائی جو کہ افسوس

9	וַיִּשְׁבַּע	מֹשֶׁה	בְּיָדוֹ	הַהוּא	לְאָמֹר	אִם־	לֹא	הָאָרֶץ	אֲשֶׁר	דְּרָבְהָ	רַגְלִי
	اور-قسم-کھائی	موسیٰ-نے	دن-اُس	اُس	کہ-کر	یقیناً	نہیں-کیا	زمین	جس-پر	چلا	پاؤں-تیرا
	<a href="#">H7650</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1869</a>	<a href="#">H7272</a>	

כִּי  
کیونکہ  
עוֹלָם  
بمیشہ  
עַד־  
تک  
וּלְבָנֶיךָ  
اور-بیٹوں-تیرے-کو  
לְנַחֲלָה  
میراث-میں  
תְּהִיָּה  
ہوگی  
לְךָ  
لیے  
בְּיָד  
میں  
מְלֵאֲתֵי  
پوری-طرح-پیروی-کی-تُو-نے  
[H4390](#)

אֶחָיו  
پیچھے  
יְהוָה  
یہوواہ  
אֶלָּהִי:  
خدا-میرے-کے  
[H0430](#)

کیونکہ گی۔ رہے میں وراثت کی اولاد تیری اور تیری تک ہمیشہ وہ ہیں چلے پاؤں پرتیرے زمین جس کیا، وعدہ سے مجھ کر کھا قسم نے موسیٰ دن اُس ہے۔ رہا وفادار کا خدا میرے رب تُو



